

سائکل کے نئے قاعدہ پر پابند رہیں

- ① ٹرافیک سیگنل کے مطابق چلائیں
- ② 「止まれ」 [رکنا] کے اشارے پر رکیے
- ③ جب پھاٹک بند ہو تو اس کے اندر مت جائیں
- ④ سائکل پر دو سوالی نہیں ہونی چاہیے
- ⑤ دو سائکل پہلو بہ پہلو صف باندھ کر مت چلائیں
- ⑥ سائکل چلاتے وقت چھتری استعمال نہ کریں
- ⑦ چلاتے وقت موبائل استعمال نہ کریں
- ⑧ چلاتے وقت ہیڈ فون استعمال نہ کریں
- ⑨ شراب پینے کے بعد مت چلائیں
- ⑩ رات کو بتی جلا کر چلائیں
- ⑪ ایسا سائکل جس کی بریک نہ ہو، اس کا استعمال نہ کریں
- ⑫ بچوں کو چلاتے وقت ہیلمیٹ پہننا ضروری ہے
- ⑬ عام طوہر پر گاڑی والی سڑک کے بائیں راستے پر چلائیں لیکن جب سڑک میں گاڑیاں زیادہ ہوں تو پٹری [فٹ پاتھ] پر آہستہ چلا سکتے ہیں بڑھے لوگ اور بچے پٹری پر چلا سکتے ہیں



اگر تنبیہ کی جائے

تین سال میں دو سے زیادہ بار

تو آپ کو ٹریفیک کے متعلقہ تربیتی کورس میں شرکت کرنا پڑتا ہے کورس تین گھنٹے کا اور سائکل چلانے کے قاعدہ کے بارے میں ہے اور آپ کو کورس کا کرایہ ۵۶۰۰ جاپانی ین ادا کرنا ہوگا

JPY5,700 تبدیل JPY6,000